



## JUZ 6 – PART 2

### SURAH AL-MAIDAH AYAAT 28-82

#### ROOT WORDS

Translation	ROOT WORD	WORD	AYAT
بڑھایا تو نے	ب س ط	بَسَطَتْ	28
توپلئے	ب و ا	تَبَوَّءَ	29
تو آسان کر دیا	ط و ع	فَطَوَّعَتْ	30
پس وہ ہو گیا	ص ب ح	فَأَصْبَحَ	
ایک کوا	غ ر ب	غَرَابًا	31
لاش	س و ا	سَوَاءَ	
کیا عاجز ہوا میں	ع ج ز	أَعْجَزْتُ	
نادم ہونے والے	ن د م	مِنَ النَّادِمِينَ	
وہ دوڑدھوپ کرتے ہیں	س ع ي	يَسْعُونَ	33
وہ سولی چڑھادیے جائیں	ص ل ب	يُصَلَّبُوا	
پاؤں ان کے	ر ج ل	أَرْجُلُهُمْ	
چور مرد	س ر ق	السَّارِقُ	38
چور عورت	س ر ق	السَّارِقَةُ	
اپنے مونہوں سے	ف و ه	بِأَفْوَاهِهِمْ	41
بہت زیادہ سننے والے ہیں	س م ع	سَمَّاعُونَ	
وہ بدل دیتے ہیں	ح ر ف	يُحَرِّفُونَ	
ان کی جگہیں (مقرر ہونے کے)	و ض ع	مَوَاضِعِهِ	
بہت زیادہ کھانے والے ہیں	أ ك ل	أَكَّالُونَ	42
حرام کو	س ح ت	لِلسُّخْتِ	

وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو	ض ر ر	يَضْرُوكَ	
ربانی / رب والے	ر ب ب	الرَّبَّانِيُونَ	44
علماً فقہاً بھی	ح ب ر	الأَحْبَابُ	
وہ محافظ بنائے گئے تھے	ح ف ظ	اسْتَحْفَظُوا	
اور نہ تم لو	ش ر ي	وَلَا تَشْتَرُوا	
ناک	أ ن ف	الْأَنْفَ	45
کان	ا ذ ن	الْأُذُنَ	
تمام زخموں	ج ر ح	الْجُرُوحَ	
بدلہ ہے	ق ص ص	قِصَاصٍ	
صدقہ (معاف) کر دے	ص د ق	تَصَدَّقَ	
اور نگہبان ہے	ه م ن	وَمُهَيْمِنًا	48
ایک راستہ	ش ر ع	شَرِيعَةً	
اور ایک طریقہ	ن ه ج	وَمِنْهَاجًا	
پس سبقت کرو / آگے بڑھو	س ب ق	فَاسْتَبِقُوا	
نیکیوں میں	خ ي ر	لْخَيْرَاتِ	
وہ فتنہ میں نہ ڈالیں آپ کو	ف ت ن	يَفْتِنُوكَ	49
وہ پہنچائے انہیں مصیبت	ص و ب	يُصِيبُهُمْ	
جاہلیت کا	ج ه ل	الْجَاهِلِيَّةِ	50
وہ چاہتے ہیں	ب غ ي	يَبْغُونَ	
جو یقین رکھتے ہیں	ي ق ن	يُوقِنُونَ	
بہت نرم ہوں گے	ذ ل ل	أَذِلَّةٍ	54
بہت سخت	ع ز ز	أَعَزَّةٍ	
ملامت کرنے والے کی	ل و م	لَائِمٍ	
گروہ	ح ز ب	حِزْبٍ	56

غالب آنے والے ہیں	غ ل ب	الْغَالِبُونَ	
مذاق	ه ز أ	هُزُوا	57
اور کھیل	ل ع ب	وَلْعِبًا	
پکارتے ہو تم	ن د ی	نَادَيْتُمْ	58
تم میرے رکھتے	ن ق م	تَنْقُمُونَ	59
بدتر	ش ر ر	بِشْرٍ	60
لعنت کی ہو اس پر	ل ع ن	لَعْنَهُ	
بندر	ق ر د	الْقِرَدَةَ	
طاغوت کی	ط غ ی / ط غ و	الطَّاغُوتِ	
البتہ کتابرا ہے	ب أ س	لَيْسَ	62
روکتے انہیں	ن ہ ی	يَنْهَاهُمْ	63
وہ کرتے / بناتے	ص ن ع	يَصْنَعُونَ	
بندھا ہوا ہے	غ ل ل	مَغْلُولَةٌ	64
باندھ دیئے گئے	غ ل ل	عُلَّتْ	
دونوں کھلے ہوئے ہیں	ب س ط	مَبْسُوطَتَانِ	
وہ خرچ کرتا ہے	ن ف ق	يُنْفِقُ	
سرکشی میں	ط غ ی / ط غ و	طُغْيَانًا	
اور بغض	ب غ ض	وَالْبَغْضَاءِ	
بجھا دیا اسے	ط ف أ	أَطْفَأَهَا	
البتہ وہ کھاتے	أ ك ل	لَأَكْلُوا	66
میانہ رو ہے	ق ص د	مُقْتَصِدَةٌ	
پیغام اس کا	ر س ل	الرَّسُولُ	67
وہ بچائے گا آپ کو	ع ص م	يَعِصِمُكَ	
آپ افسوس کیجیے	ی أ س	تَأْسٍ	68

اور جو صابی ہیں	ص ب أ	وَالصَّابُّونَ	69
نہیں چاہتے تھے	ه و ی	لَا تَهْوَى	70
تو وہ اندھے ہو گئے	ع م ی	فَعَمُوا	71
وہ باز آئے	ن ه ی	يَنْتَهُوا	73
نہ تم غلو کرو	غ ل و	لَا تَغْلُوا	77
زبان	ل س ن	لِسَانٍ	78
ناراض ہوا	س خ ط	سَخِطَ	80
محبت میں	و د د	مَوَدَّةً	82
علماء	ق س س	قَسِيصِينَ	